

حکایات سعدی

جوانمردی

حاتم طانی را گفتند: "از خود بزرگ همت تر در جهان دیده ای یا شنیده ای ۹" گفت: بلی، روزی چهل شتر قربان کرده بودم امرازی غرب را پس به گوشة صحرانی به حاجتی بُرُون رفتم، خارکنی را دیدم پشته ای فراهم آورده. گفتش: "به مهمانی حاتم چرانروی که خلقی بر ساط او گرد آمده اند" ۹ گفت:

هر که نان از عمل خویش خورد
من بت حاتم طانی نبرد
من او را به همت و جوانمردی از خود برتر دیدم.

هُنر بِيَامُوز

حکیمی پسران را پند همی داد که جانان پدر، هنر آموزید که ملک و دنیا، اعتقاد را نشاید و سیم وزر در سفر بر محل خطر است. یا ذرد به یکبار ببرد یا خواجه به تقاریق بخورد. اما هنر چشم زاینده است و دولت پاینده. و اگر هنرمند از دولت بیفتاد غم نباشد که هنر در نقس خود، دولت است هر جا که رُود قدر ببیند و بر صدر نشیند و بی هنر، لقمه چیند و سختی بیند:

میراث پدر خواهی علم پدر آموز
کاین مال پدر خرج توان کرد به یک روز

علم میراث پیغمبران است

دو امیرزاده در مصر بودند. یکی علم آموخت و دیگر مال اندوخت. عاقبتہ الامر آن یکی علامه مصر گشت و آن دیگر عزیز مصر شد. پس این توانگر

بچشم حقارت در فقیه نظر کرد و گفت: من به سلطنت رسیدم و تو همچنان در مسکنت بماندی گفت "ای برادر شکر نعمت با وی عز اسمه همچنان افزون تراست بر من که میراث پیغمبران یافتم، یعنی علم و ترا میراث فرعون و هامان، یعنی ملک مصر".

من آن مورم که در پایم بمالند
نه زنیورم که از دستم بمالند
کجا خود شکر این نعمت گذارم
که زور مردم آزاری ندارم

(سعده)

فرهنگ

أمراءی عرب را:	عرب کے امراء کے لیے	بزرگ ہمت:	جو اندر، بھی، صاحب ارادہ
خارکن:	خنک جھاڑیاں توڑنے والا	بے حاجتی:	کسی غرض سے، کسی کام سے
خلق:	غلقت، لوگ	پُشته:	گٹھا، پشت پر اٹھانے کے لیے بوجہ
گرداً مدن:	اکٹھے ہونا، جمع ہونا	سماط:	دستخوان، خوان نعت
منڈت بُردن:	احسان اٹھانا	منڈت:	احسان
پنڈادن:	صیحت کرنا	حکیم:	دانا، صاحب عقل و حکمت
اعتماد را نشاید:	قابل اعتماد نہیں ہے	جانان پدر:	باپ کے لخت جگر
بر محل خطر است:	خطرے کی زدیں ہے	سیم وزر:	سونا، چاندی
خواجه:	مالک	ذُرْد:	چور

در نفس خود : بجائے خود، بذات خود
 دولت پایندہ : ہمیشہ رہنے والی دولت
 سخنی دیدن : تمایاں اور اہم مقام پر بیٹھنے
 صدر نشینیدن : نہ کام انجام دینا، سختی جھینانا
 اندوختن : جمع کرنا
 خرج کردن : خرچ کرنا
 آموختن : سیکھنا
 یافتن : پاننا
 توانگر : امیر، رئیس
 مالیدن : مسل دینا
 نالیدن : رنجیدہ ہونا
 میراث : جو کچھ ماں باپ سے ترک ملے، ورش
 تواریق : تفریق کی جمع، الگ الگ (مراوے تھوڑا تھوڑا کر کے)
 چشمہ زایندہ : ایسا چشمہ جس میں سے پانی لکھتا ہی رہتا ہے
 از دولت افتادن : کسی منصب سے معزول ہو جانا، مال و دولت ہاتھ میں نہ رہنا
 حاتم طانی : عرب کے بڑوں میں سے تھا اور سخاوت میں بہت مشہور تھا۔ عربی اور فارسی ادب میں اس
 کی سخاوت اور جوانمردی کی کہانیاں کثرت سے ملتی ہیں۔ حاتم طائی ظہور اسلام سے پہلے عرب میں زندگی بسر
 کرتا تھا۔

تمرین

۱- فارسی میں جواب دیجیے۔

۲- گلستان چہ کتابی است؟

۳- از حاتم طائی چہ بُرمیبدند؟

۴- حاتم طائی چہ جواب داد؟

- ۵- حکیم بہ پسaran خود چہ پندی می داد؟
- ۶- مراد از این حملہ چیست؟
- ”ہنر چشمہ زاینده است و دولت پاینده“؟
- ۷- مندرجہ ذیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں:
- ہمت ، اعتماد ، تفاریق ، صدر ، میراث
- ۸- ان حکایتوں کے آخر میں جوا شعار آئے ہیں اُخیں زبانی یاد کریں اور ان کا مطلب اچھی طرح ذہن نشین کریں۔
- ۹- مندرجہ ذیل مفہموں کے مصدر بتائیے:
- روَد ، خورد ، بَرَد ، آموزد ، مشاید ، افتاد ، نشیند ، بیند
-